

کونسل نے مین اسٹریٹ پر LRT روٹ کی منظور دے دی ہے جبکہ ڈاؤن ٹاؤن ری امیجنگ کو التوا میں ڈال دیا گیا ہے

برامپٹن، آن - کونسل نے برامپٹن ٹرانزٹ نیٹ ورک پلان کے ایک حصے کے طور پر مین اسٹریٹ پر لائٹ ریل ٹرانزٹ (LRT) کو ترجیح دینے کی آج منظوری دے دی ہے جبکہ ڈاؤن ٹاؤن ری امیجنگ (DR) پروجیکٹ کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔

LRT کی حرکت پذیری کی شہ سرخیوں میں شامل ہیں:

- برامپٹن LRT ایکسٹینشن اسٹڈی پر نظر ثانی کرنا اور اصلی ہورونٹیویو- مین LRT انوائرنمنٹ اسیسمنٹ میں مطلوبہ تبدیلیاں کرنا، بشمول ایک انٹرگراؤنڈ سرنگ بنانے کے منصوبے کو زیر غور لانا اور اس پر ایک مطالعہ کا انعقاد کرنا
- کینیڈی روڈ اور میک لافلن روڈ کے لیے بس ریپڈ ٹرانزٹ (BRT) کو بطور ٹیکنالوجی استعمال کرنا اور ان متوازی راستوں کو بجانب شمال اور/یا جنوب مزید وسیع کرنے پر غور کرنا
- مین اسٹریٹ پر برامپٹن گو اسٹیشن تا میفلڈ روڈ تک ریپڈ ٹرانزٹ کے آپشنز کا مطالعہ کرنا، جیسا کہ ٹرانسپورٹیشن اینڈ ٹرانزٹ ماسٹر پلان (TTMP) میں تجویز کیا گیا ہے
- ڈاؤن ٹاؤن موبیلٹی ہب کے حوالے سے عمل درآمد کی حکمت عملی کی نشاندہی کرنا

DR پروجیکٹ کو کئی وجوہات کی بناء پر التوا میں ڈالا جا رہا ہے، بشمول ذیل:

- ٹینڈر کی بولی تخمینہ شدہ اخراجات سے زیادہ موصول ہوئی ہے
- یوٹیلٹیٹیز اور ایک انٹر گراؤنڈ چینل کی تعمیر کے حوالے سے غیر یقینی صورت حال
- ڈاؤن ٹاؤن کور میں ترقیاتی منصوبہ جات کے نئے مواقع
- یونیورسٹی کے لیے صوبائی مالی امداد کی منسوخی کی وجہ سے ڈاؤن ٹاؤن کور کے پروجیکٹس میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں
- کونسل کے سابقہ فیصلے کے مطابق DR کا موجودہ ڈیزائن LRT ڈاؤن مین اسٹریٹ کی راہ میں حائل ایک رکاوٹ ہے

"میئر پیٹرک براؤن نے کہا کہ "مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ٹیکس دہندگان کو ان کے پیسے کا نعم البدل دینے کے لیے کونسل نے اتفاق رائے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ "برامپٹن کے لیے 2040 ویژن میں مذکور شدہ ہمارے متفقہ ہدف میں ایک جدید اور مؤثر LRT شامل ہے۔ اس سے ہمیں یہ یقینی بنانے میں مدد ملے گی کہ برامپٹن مستقبل میں ایسی قومی اور عالمی سطح کی تنظیموں کو اپنی جانب راغب کر سکے گا جو GTA ریجن میں سرمایہ کاری کی خواہشمند ہیں - یعنی وہ چیز جو برامپٹن کو خوشحال بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہے۔ ڈاؤن ٹاؤن ری امیجنگ میں وقفہ کرنے سے ہم اس بات کو یقینی بنا سکیں گے کہ ہم ہر کام پہلی مرتبہ ہی بہترین طریقے سے کر سکیں اور ایک مؤثر اور ذمہ دارانہ طریقے سے آگے بڑھ سکیں۔"

ہیری شلینج، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر کا کہنا ہے کہ "یہ ہمارے لیے ایک اچھا موقع ہو گا کہ ہم ڈاؤن ٹاؤن میں منصوبہ شدہ تمام پروجیکٹس کا دوبارہ بغور جائزہ لے سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ "ہم آنے والی کچھ ترغیبات کے لیے سرگرم ہو رہے ہیں اور اب ہم اپنے ڈاؤن ٹاؤن کی تجدید کے عزم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہولسٹک طریقہ کے مطابق بہترین منصوبہ بندی کرنے کے قابل ہیں۔"

مستقبل کی کچھ ترغیبات میں شامل ہیں ڈاؤن ٹاؤن ٹرانزٹ ٹرمینل کو ممکنہ طور پر دوبارہ ترقی دینا اور ہیریٹیج تھیٹر بلاک اور سائبر سیکورٹی کے لیے ایک مرکز کا قیام عمل میں لانا۔

موجودہ ترغیبات میں شامل ہیں:

- سنٹر فار انوویشن
- دی جینگ سکول آف کاتھوننگ ایجوکیشن (جنوری 2019 سے آغاز کے ساتھ سائبر سیکورٹی پر دو کورس)

- [ایک نئی پائیلٹ انکیوبیٹر ہب \(متوقع طور پر آغاز موسم بہار 2019\)](#)
- [الگوما یونیورسٹی میں توسیع](#)

30--

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹویٹر، فیس بک، اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگل

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca